



### برامپٹن کو بڑے پیمانے پر سیلابی پانی کا سامنا ہے رہائشیوں کو محفوظ رہنے کی یاددہانی کرائی جاتی ہے

برامپٹن، آن (17 فروری 2022) – برامپٹن میں شہر بھر میں بڑے پیمانے پر مقامی سیلاب کا سامنا کیا جا رہا ہے۔ رہائشیوں کو یاد دلایا جاتا ہے کہ جب سیلاب آئے، تو وہ محفوظ مقامات پر رہیں۔

اس وقت، سٹی کو معلوم ہے کہ درج ذیل مقامات مقامی سیلاب سے متاثر ہو رہے ہیں:

- ونسٹن چرچل بولیورڈ میں وینلیس روڈ
- بوویرڈ ڈرائیو سے وینلیس ڈرائیو تک بیریٹیج روڈ
- ہال سٹون روڈ پر کریڈٹ ویو روڈ
- سٹیلیز ایونیو میں کریڈٹ ویو روڈ
- سٹیلیز ایونیو میں چرچ ول روڈ
- کلیرینس سٹریٹ برج
- پیل ولیج میں کیوانس برج

اگر ممکن ہو، تو رہائشیوں کو ان علاقوں سے دور رہنا چاہیے اور درج ذیل حفاظتی احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا چاہیے:

- کھڑے پانی میں بجلی کے زیر زمین نظام اور زیر زمین یا نیچے دبائی گئی بجلی کی لائنوں سے کرنٹ دوڑ سکتا ہے۔ اپنے آپ کو، بچوں اور پالتو جانوروں کو کھڑے پانی اور بجلی کی گری ہوئی تاروں سے دور رکھیں۔
- سیلاب کا پانی تیزی سے حرکت کر سکتا ہے اور ڈوبنے کا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ اپنی حفاظت پر دھیان دیں اور سیلاب کے پانی میں گاڑی نہ چلائیں اور نہ ہی پیدل چلیں۔
- عمارتوں کے ڈھانچے متاثر ہو سکتے ہیں اور غیر محفوظ ہو سکتے ہیں۔ اگر پورچ کی چھتوں اور اوپر لٹکتی ہوئی چیزوں سمیت گھر کی بنیادوں کو کوئی نقصان پہنچا ہو یا دراڑیں وغیرہ پڑ گئی ہوں، تو گھر کو چھوڑ دیں۔
- سیلاب کا پانی اکثر سڑکوں اور پیدل راستوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ سڑکیں کمزور ہو سکتی ہیں اور گاڑی کے وزن سے نیچے بیٹھ سکتی ہیں۔ سیلاب کے پانی میں گاڑی نہ چلائیں اور نہ ہی پیدل چلیں۔
- سیلابی پانی میں سیوریج (بیگٹیریا، وائرس یا پیراسائٹس پر مشتمل ہو سکتا ہے)، کیمیکلز اور ٹوٹے ہوئے شیشے کی طرح کا کوئی ملبہ بھی موجود ہو سکتا ہے۔ نشیبی علاقوں سے گریز کریں۔ اپنے آپ کو، خاندان اور پالتو جانوروں کو سیلاب کے پانی سے دور رکھیں۔
- سیلابی علاقے میں داخل نہ ہوں جب تک کہ مناسب ذاتی حفاظتی سامان اور لباس نہ پہنیں۔

اگر رہائشی خطرے میں ہوں، تو انہیں فوری طور پر 9-1-1 پر کال کرنی چاہیے۔ میونسپل سڑکوں پر مقامی سیلاب کی اطلاع دینے کے لیے، بلاک شدہ سٹارم سیوریج گریٹس یا تہ خانے میں سیلاب کی اطلاع دینے کے لیے، 311 پر کال کریں۔

تازہ ترین صورت حال کے بارے میں جاننے کے لیے ہمیں بذریعہ [@BEMOPrepared](https://www.brampton.ca/BEMOPrepared) ٹوئٹر پر فالو کریں اور سیلاب سے حفاظت کے بارے میں معلومات کے لیے [www.brampton.ca](https://www.brampton.ca) ملاحظہ کریں۔